



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

July 16, 2020

SECP issues draft Insurance Ordinance (Amendment) Bill, 2020 for public consultation

ISLAMABAD, July 16: The Securities and Exchange Commission of Pakistan has proposed amendments to the primary insurance law i.e. Insurance Ordinance 2000. The draft law has been placed on SECP's website for stakeholders and public consultation.

The Draft Bill will address the regulatory gaps in existing law and provide a conducive regulatory environment to encourage market development. It will facilitate use of technology, provide ease of doing business and address entity specific and systemic risks by shifting towards Risk Based Supervision (RBS) and Risk Based Capital (RBC) Regime. The amendments in law will also strengthen the regulatory framework and ensure its alignment with the Insurance Core Principles (ICP) of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

The significant reforms proposed in the draft bill include introduction of dedicated microinsurers, provisions for regulation of takaful and re-takaful, regulation of local and foreign reinsurance business for enhancement of local capacity, regulation of reinsurance brokers, flexibility for introduction of new intermediaries, insurance repository and insurance self-network platform, provisions for regulation of index based insurance and InsurTech.

Provisions for introduction of RBS and RBC regime and establishment and operation of a guarantee fund for insolvency of insurers have been included to strengthen the regulatory framework and align the law with core principles of IAIS and address systemic risk. The amended law will also assist in enhancing compliance with AML/CFT frameworks. The changes include requirement of appointed actuary and product filing of personal lines for non-life insurance, appointment of internal actuary for life insurers and enhancement of market conduct provisions. The regulatory powers of the Commission for regulation and supervision of insurance companies and intermediaries, have also been streamlined in the Draft Bill.

For eliciting public comments the Draft Bill, has been placed on the official website of the SECP and is accessible <https://www.secp.gov.pk/document/draft-insurance-ordinance-amendment-bill-2020/?wpdmdl=39733&refresh=5f0ed0812e2da1594806401> and at <https://www.secp.gov.pk/document/comparative-statement-of-draft-insurance-ordinance-amendment-bill-2020/?wpdmdl=39734&refresh=5f0ed15ebe8131594806622>.

Public comments received within a period of thirty days may be provided at jaffar.awan@secp.gov.pk which shall be considered in its finalization.

ایس ای سی پی نے انشورنس آرڈیننس (ترمیمی) بل کا مسودہ عوامی رائے عامہ کے لئے جاری کر دیا

اسلام آباد (جولائی 16):- سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انشورنس کے قانون کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پالیسی ہولڈروں کو تحفظ دینے کے پیش نظر انشورنس آرڈیننس 2000 میں ترامیم تجویز کرتے ہوئے، انشورنس (آرڈیننس) ترمیمی بل 2020 کا مسودہ اسٹیک ہولڈرز اور عوامی رائے عامہ کے لئے کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے۔

قانون میں ان جامع ترامیم کا مقصد بیمہ کے موجودہ قانون میں وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کرنا، انشورنس انڈسٹری کے پھیلاؤ کے لئے ایک موزوں ریگولیٹری ماحول فراہم کرنا اور کمپنیوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال اور کاروبار میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ قانون میں ترامیم کے ذریعے انشورنس سیکٹر کی ریگولیٹری رجیم رسک بیسڈ سپروژن (آر بی ایس) اور رسک بیسڈ کیپٹل (آر بی سی) رجیم کی طرف لے جایا جائے گا تاکہ کمپنیوں کے نظامی خطرات سے نمٹنے میں معاونت ملے گی۔ قانون میں بیمہ کے شعبے کے انضباطی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور انشورنس سپروائزرز کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن (IAIS) کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ بنائے گا۔

قانون کے مسودہ بل میں تجویز کردہ اہم اصلاحات میں مائیکرو انشورنس کی تعریف و تشریح، تکافل اور ری تکافل کے ضابطے کی دفعات، غیر ملکی انشورنس کاروبار کے ضوابط، انشورنس بروکرز کے قواعد و ضوابط، نئے انٹر میڈیئریریز کے شرائط و ضوابط، انشورنس ریپوزٹری اور انشورنس سیلف نیٹ ورک پلیٹ فارم، انڈیکس پر مبنی انشورنس اور انشورٹیک کے ضوابط کے لئے دفعات شامل کی گئی ہیں۔

ریگولیٹری فریم ورک کو مستحکم کرنے اور انٹرنیشنل انشورنس ایسوسی ایشن کے اصولوں کے ساتھ قانون کو ہم آہنگ کرنے اور سسٹیمیٹک رسک سے نمٹنے کے لئے آر بی ایس اور آر بی سی رجیم متعارف کروانے اور انشوررز کے نادہندگان کے لئے گارنٹی فنڈ کے قیام کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نیا قانون اینٹی منی لانڈرنگ کے فریم ورک کے ساتھ کیپلائنس میں اضافہ بھی کرے گا۔ مسودے میں مذکورہ ضوابط کے لئے کمیشن کے ریگولیٹری اختیارات اور انشورنس کمپنیوں کی نگرانی اور انٹر میڈیئریریز کو بھی جدید تقاضوں کے عین مطابق کر دیا گیا ہے۔ عوامی تجاویز اور آراء کے حصول کے لئے اس مسودہ بل کو ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے۔